

ورجینیا محکمہ صحت

سکول اور ڈے کیئر

حفاظتی ٹیکوں کے کم از کم تقاضے

کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ ایلیمینٹری، مڈل یا ہائی سکول، چائلڈ کیئر، نرسری سکول، فیملی ڈے کیئر یا ترقیاتی مرکز میں حاضری کے لیے مناسب عمر، مناسب حفاظتی ٹیکے لگوانے کا دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہو گا جس میں دی گئی خوراکیوں کی تعداد بتائی گئی ہو۔ ٹیکوں کا لگانا، سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن، امریکن اکیڈمی آپ ہیڈیٹرائٹرس، اور امریکن اکیڈمی آف فیملی فزیشن کے شیڈول کی مطابقت میں اور مقررہ وقفوں اور عمر کے لحاظ سے کی گئی ہو،

(<http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm>) پر دستیاب ہے۔ جن بچوں کے حفاظتی ٹیکے موجودہ شیڈول سے ہم آہنگ ہیں یا بعد میں طے شدہ وقت پر لگوانے کے لیے شیڈول ہیں (بشرطیکہ کم از کم عمر اور وقفوں کی شرائط پوری ہوں)، انہیں سکول حاضری کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ (اضافی معلومات کے لیے "سکول کے لیے درکار ویکسین کی اضافی رہنمائی" ملاحظہ کیجیے)۔

خناق، ٹیٹنس اور کالی کھانسی (DTaP, DTP, or Tdap) کم از کم 4 خوراکیں۔ بچے کو DTaP یا DTP کی کم از کم ایک خوراک چوتھی سالگرہ پر یا اس کے بعد دی گئی ہو۔ DT (ڈیٹھیڑیا، ٹیٹنس) کا ٹیکہ لگوانا ان طلباء کے لیے ضروری ہے جنہیں pertussis والا ٹیکہ (DTaP یا DTP) سے اسٹنٹی دیا گیا ہے۔ 7 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو جنہیں ٹیٹنس اور خناق کی کم از کم ضرورت پر پورے نہیں اترتے انہیں اڈلٹ Td لگوانے کی ضرورت ہے۔

1 جولائی، 2014 سے، 6ویں گریڈ میں داخل ہونے والے تمام بچوں کو ویکسین کی بوسٹر خوراک دینا لازمی ہے۔

ہیمو فیلیس انفلوئنزا ٹائپ b (Hib) ویکسین۔ یہ ویکسین صرف 60 ماہ کی عمر تک کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی سیریز پر مشتمل 2 یا 3 خوراکیں (کمپنی کی بنیاد پر) پر مشتمل ہیں۔ تاہم، بچے کی حالیہ عمر نہ کہ ما قبل دینے گئے ٹیکوں کی تعداد پر اس امر کا تعین ہوتا ہے کہ کتنی خوراکیں کی ضرورت ہے۔ 15 تا 60 ماہ کی عمر کے وہ بچے جنہیں حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوا یا گیا ہو، انہیں حفاظتی ٹیکے کی صرف ایک خوراک لگوانے کی ضرورت ہے۔

ہیپاٹائٹس B ویکسین۔ تمام بچوں کے لیے ہیپاٹائٹس B حفاظتی ٹیکے کی 3 خوراکیں پر مشتمل مکمل سیریز لازمی ہے۔ تاہم، FDA نے 11 تا 15 سال کی عمر کے نوجوانوں کو صرف 2 خوراکیں کے شیڈول کی منظوری دی ہے اور صرف تب جب مرک برانڈ (ریکومی ویکس) (RECOMBIVAX HB) ایڈلٹ فارمیولیشن ہیپاٹائٹس بی حفاظتی ٹیکوں کا استعمال کیا گیا ہو۔ اگر 11 سے 15 سال کے نوجوانوں کے لیے 2 خوراکیں شیڈول کی گئی ہیں تو اسے سکول فارم پر واضح انداز میں درج ہونا چاہیے۔

ہیومن ہیپیلوما وائرس ویکسین (HPV)۔ 1 اکتوبر، 2008 سے، لڑکیوں کے لیے HPV کی 3 خوراکیں کی مکمل سیریز لازمی ہے۔ پہلی خوراک، بچہ/بچی کے 6ویں گریڈ میں داخل ہونے سے قبل دی جانی چاہیے۔ محکمہ صحت کے منظور شدہ تعلیمی مواد کا جائزہ لینے کے بعد، والد یا والدہ یا سرپرست، والد یا والدہ یا سرپرست کی صوابدید پر، بچہ/بچی کو HPV ویکسین نہ دلانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

خسرہ، گلسونے، اور روبیلا (MMR) کے حفاظتی ٹیکے خسرے کی کم از کم 2، گلسونے کی 2 اور روبیلا کی کم از کم 1 خوراک۔ (اکثر بچوں کو ہر ایک کی 2 خوراکیں دی جاتی ہیں کیونکہ دیا جانے والا ٹیکہ MMR کا مشترکہ ٹیکہ ہوتا ہے)۔ پہلی خوراک لازمی طور پر 12 ماہ یا اس سے زیادہ عمر میں دی جانی چاہیے۔ ویکسین کی دوسری خوراک کنڈرگارٹن میں داخل ہونے سے پہلے دی جانی چاہیے لیکن پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان کم از کم وقفے کے بعد کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔

نیموگل (PCV) کا حفاظتی ٹیکہ۔ یہ ویکسین صرف 60 ماہ سے کم عمر کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ نیموکوکال کانجوگیٹڈ ویکسین کی ایک تا چار خوراکیں، جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پہلی خوراک کس عمر میں دی گئی، لازمی ہے۔

پولیو ویکسین۔ پولیو ویکسین کی کم از کم 4 خوراکیں۔ پہلی خوراک لازمی طور پر چوتھی سالگرہ یا اس کے بعد دی جانی چاہیے۔ اضافی معلومات کے لیے ضمنی رہنمائی ملاحظہ کیجیے۔

خسرہ (لاکڑا کاکڑا) کی ویکسین 1 جنوری، 1997 میں یا اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام بچوں کے لیے، خسرہ ویکسین کی ایک خوراک 12 مہینے یا اس کے بعد دینا لازمی ہے۔ 3 مارچ، 2019 سے، ویکسین کی دوسری خوراک کنڈرگارٹن میں داخل ہونے سے پہلے دی جانی چاہیے لیکن پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان کم از کم وقفے کے بعد کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔

مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی ڈویژن برائے حفاظتی ٹیکے کو 1.800.568.1929 (صرف ریاست کے اندر) پر یا 804.864.8055 پر فون کیجیے۔